



”جو کسی عرّاف (غیبی امور کے جاننے کا دعویٰ رکھنے والا) کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھے، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی“

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک زوجہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جو کسی عرّاف (غیبی امور کے جاننے کا دعویٰ رکھنے والا) کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھے، تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی“
[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم عراف، جو ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر کا، ن، نجومی اور رمال وغیرہ ایسے تمام لوگ شامل ہیں، جو کچھ مقدمات کے ساتھ غیب کی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کے پاس جاننے سے خبردار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے غیب کی بات پوچھنے کے نتیجے میں انسان چالیس دن کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے ایسا دراصل اس بڑے گناہ کی سزا کے طور پر کیا گیا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5986>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

